

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - II (کلاس بارہویں)

اصول کامرس پرچہ - دوسرا (آپشن iii) بینکنگ
(Option-iii) BANKING (COMMERCE GROUP) (کامرس گروپ)

TIME ALLOWED: 2.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60

کل نمبر = 60

نوٹ: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

- Describe the main objective of micro finance banking.
- What is meant by Statement in lieu of Prospectus?
- What is meant by Balance Sheet?
- Write down the methods of creating credit by Commercial Bank.
- Define Online Banking.
- What is meant by ATM?
- What is meant by NIFT?
- Explain Scheduled and Non-scheduled Bank.
- Write the names of Development Banks.

سوال نمبر 2- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- جزوی مالیاتی بنکاری کا مقصد بیان کریں۔
- بنک کے قائم مقام پیش نامہ سے کیا مراد ہے؟
- بنک کے توازن چھ (شیٹ) سے کیا مراد ہے؟
- تجارتی بنک کے ذرا اعتبار تخلیق کرنے کے طریقوں کے نام لکھیں۔
- آن لائن بینکنگ کی تعریف کریں۔
- ایٹمی ایم سے کیا مراد ہے؟
- NIFT سے کیا مراد ہے؟
- فہرستی اور غیر فہرستی بنک کی وضاحت کریں۔
- ترقیاتی بینکوں کے نام لکھیں۔

3. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

- What is meant by Bank Account?
- What is meant by profit and loss sharing term deposit account?
- Explain minor customer of a Bank.
- What is meant by Negotiable instrument?
- Define Bill of Exchange.
- Define Bank Draft.
- What is meant by Letter of Credit?
- Define Cross Cheque.
- Define Money Order.

سوال نمبر 3- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- بنک کے کھاتے یا حساب سے کیا مراد ہے؟
- نفع و نقصان کے مدتی کھاتے سے کیا مراد ہے؟
- بنک کے نابالغ گاہک کے بارے میں وضاحت کریں۔
- تحویل پذیر آلات اعتبار سے کیا مراد ہے؟
- ہنڈی کی تعریف کریں۔
- بنک ڈرافٹ کی تعریف کریں۔
- اعتباری خط سے کیا مراد ہے؟
- کراس چیک کی تعریف کریں۔
- مئی آرڈر کی تعریف کریں۔

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

- What is meant by Spot Exchange Rate?
- Write down the names of four Nationalized Banks.
- Write four objectives of exchange control.
- Write the types of Exchange rate.
- Define the Equitable mortgage.
- What is meant by Loan?
- What is meant by Dock Warrant?
- Define Security.
- What are the parties in Guarantee?

سوال نمبر 4- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- سپاٹ شرح مبادلہ سے کیا مراد ہے؟
- قومی تحویل میں لیے گئے چار بینکوں کے نام تحریر کریں۔
- مبادلہ پر کنٹرول کے چار مقاصد تحریر کریں۔
- شرح مبادلہ کی اقسام کے نام لکھیں۔
- عادلا ندرہن کی تعریف کریں۔
- قرض سے کیا مراد ہے؟
- ڈاک وارنٹ سے کیا مراد ہے؟
- کفالت کی تعریف کریں۔
- ضمانت کے فریق کون کون سے ہوتے ہیں؟

SECTION-II حصہ دوم

نوٹ: - Attempt any three questions. 24 = 8 x 3

- Define Central Bank and also discuss the functions of State Bank of Pakistan. 5- مرکزی بنک کی تعریف کریں نیز سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فرائض بیان کریں۔
- Discuss the functions of Commercial Bank. 6- تجارتی بنک کے فرائض بیان کریں۔
- State the circumstances under which the relationship between Banker and Customer comes to an end. 7- ان حالات کو بیان کریں جن کے تحت بینک اور گاہک کے درمیان تعلق داری ختم ہو جاتی ہے۔
- What are the causes of dishonouring of a cheque? Explain. 8- ایک چیک کے مسٹر دھونے کی کیا وجوہات ہیں؟ وضاحت کریں۔
- Define Exchange Control. What are its objectives? Explain. 9- مبادلہ خارجہ پر کنٹرول کی تعریف کریں اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ وضاحت کریں۔

Paper Code

Number: 4951

2019 (A)

رول نمبر

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - II (کلاس بارہویں)

اصول کامرس پرچہ - دوسرا (آپشن iii) بینکنگ
(Option-iii) BANKING (COMMERCE GROUP)
وقت = 20 منٹ

TIME ALLOWED: 20 Minutes

MAXIMUM MARKS: 15

OBJECTIVE حصہ معروضی

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو بھرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوال پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. On bubble sheet, use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) The document which define the objectives of bank:
(A) Memorandum of association آئین کمپنی (B) Articles of association ضوابط کمپنی
(C) Prospectus پیش نامہ (D) All these یہ تمام
- (2) Commercial bank deals in:
(A) Money زرکا (B) Issuance of currency notes کرنسی نوٹ جاری کرنے کا
(C) Bill of exchange ہٹری کا (D) All these ان تمام کا
- (3) Credit money is controlled by:
(A) Central bank مرکزی بینک (B) Commercial bank تجارتی بینک (C) Government حکومت (D) All these یہ تمام
- (4) The State Bank of Pakistan was established in:
(A) 1947 (B) 1948 (C) 1949 (D) 1950
- (5) When the quantity of money in circulation increases is known as:
(A) Inflation افراط زر (B) Deflation تفریط زر (C) Credit creation زراعتبار کی تخلیق (D) All these یہ تمام
- (6) The bank which receives deposits from public:
(A) Commercial Bank تجارتی بینک (B) Central Bank مرکزی بینک
(C) Agriculture Bank زرعی بینک (D) Industrial Bank صنعتی بینک
- (7) Bank receives long term deposits in:
(A) Current Account چلت کھاتہ (B) Saving Account بچت کھاتہ
(C) Fixed deposit account معین مدت کا کھاتہ (D) All these یہ تمام
- (8) The bank which discounts bills:
(A) Commercial Bank تجارتی بینک (B) Industrial Bank صنعتی بینک (C) Central Bank مرکزی بینک (D) All these یہ تمام
- (9) The bill drawn for financial assistance:
(A) Accommodation bill اعانتی ہٹری (B) Sight bill درستی ہٹری (C) Time bill مدتی ہٹری (D) All these یہ تمام
- (10) The person to whom the bill is transferred, called:
(A) Indorsee منتقل الیہ (B) Endorser منتقل کنندہ (C) Drawer تحریر کنندہ (D) Payee وصول کنندہ
- (11) The parties of bill of exchange are:
(A) Three تین (B) Two دو (C) Four چار (D) One ایک
- (12) Bank receive on issuing draft:
(A) Commission کمیشن (B) Interest سود (C) Profit منافع (D) All these یہ تمام
- (13) Money market deals in:
(A) Bill of exchange ہٹری (B) Securities کفالتیں (C) Promissory note تحریری وعدہ (D) All these یہ تمام
- (14) The endorser of bill is known as:
(A) Drawer تحریر کنندہ (B) Drawee مرتب الیہ (C) Endorser منتقل کنندہ (D) All these یہ تمام
- (15) The Central Bank control:
(A) Schedule Bank فہرستی بینک (B) Non-schedule Bank غیر فہرستی بینک
(C) Stock market شاہک مارکیٹ (D) Clearing House حساب گھر

PRINCIPLES OF COMMERCE (COMPUTER STUDIES) (NEW SCHEME)
(COMMERCE GROUP) PAPER-II(i)

TIME ALLOWED: 1.45 Hours

SUBJECTIVE

MAXIMUM MARKS: 40

**NOTE: - Write same question number and its part number on answer book,
as given in the question paper.**

SECTION-I

2. Attempt any six parts.

6 × 2 = 12

- (i) Define Computer.
- (ii) Write any two characteristics of Mini Computer.
- (iii) What is the difference between a Mainframe and Minicomputer?
- (iv) List major components of a Computer.
- (v) What is Main Memory?
- (vi) Identify two alternatives of a Mouse.
- (vii) Define Computer Software.
- (viii) What is Low-level Language?
- (ix) What is main difference between Compiler and Interpreter?

3. Attempt any six parts.

6 × 2 = 12

- (i) What is the Number System?
- (ii) How 1's complement of binary number is determined?
- (iii) List out different steps in data processing.
- (iv) Define Programming.
- (v) Define Top down design.
- (vi) How is a program written in BASIC?
- (vii) What is Keyword?
- (viii) How many control structures are available in BASIC?
- (ix) Define Loop.

SECTION-II

NOTE: - Attempt any two questions.

2 x 8 = 16

- 4. Explain important characteristics of Computer.
- 5. Describe main types of data used in different computer applications.
- 6. Discuss electronic data processing and its advantages.

Paper Code

Number:

4581

2019 (A)

Roll No. _____

INTERMEDIATE PART-II (12th CLASS)

PRINCIPLES OF COMMERCE (COMPUTER STUDIES)

(NEW SCHEME)

(COMMERCE GROUP) PAPER-II(i)

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE

MAXIMUM MARKS: 10

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

- (1) The most powerful computer is:
(A) Mainframe Computer (B) Mini Computer (C) Personal Computer (D) Super Computer
- (2) The component of CPU, responsible for interacting with primary memory is:
(A) ALU (B) Control Unit (C) BUS (D) Floppy Disk
- (3) The output of printer is called:
(A) Hard copy (B) Soft copy (C) Graphics (D) Multimedia
- (4) The following are high-level languages, except:
(A) Assembly language (B) Pascal (C) BASIC (D) FORTRAN
- (5) A collection of raw facts and figures is called:
(A) Output (B) Processing (C) Data (D) Information.
- (6) The decimal value of 2^{-1} is equal to:
(A) 0.05 (B) 0.25 (C) 0.5 (D) 1
- (7) A graphical representation of the steps involved in an algorithm is called:
(A) Flowchart (B) Diagram (C) Graph (D) Chart
- (8) Program upgradation refers to:
(A) Program development (B) Program enhancement
(C) Program identification (D) Program implementation
- (9) The key used to save a file in GW-BASIC is:
(A) F1 (B) F2 (C) F3 (D) F4
- (10) In "if statement" false is represented by:
(A) -1 (B) 1 (C) 0 (D) 2

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN
OBJECTIVE KEY FOR INTERMEDIATE ANNUAL EXAMINATION, 2019

Name of Subject: Principle of Banking

Session: 2019 / A

Group: 1st

Group: 2nd Pr. of Computer (Comp)

Q.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
Nos	4951			
1	A			
2	A			
3	A			
4	B			
5	A			
6	A			
7	C			
8	A			
9	A			
10	A			
11	A			
12	A			
13	D			
14	A & C			
15	A			
16				
17				
18				
19				
20				

Q.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
Nos	4581			
1	D			
2	B			
3	A			
4	A			
5	C			
6	C			
7	A			
8	B			
9	D			
10	C			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

برقیکیٹ بابت صحیح سوالیہ پرچہ امارتنگ Key

ہم نے مشہور Principle of Banking پرچہ دوسرا (ii) گروپ کامرس سکیم _____ انٹر سالانہ امتحان 2019 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر حقیقت چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 11-05-2019

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Muhammad Faraz	Lecturer	Govt W.H.S. College Multan	0300-4910175	
2	Faisal Rasheed Khan	A.P	Govt. D.C. Mohdwan	0300-9358717	
3					
4					
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تہیہ کر لی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1				
2				
3				

11-05-19 تاریخ